

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے
 اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور بُرے کاموں سے منع کرے
 یہی لوگ سب سے پائے والے ہیں ————— (پہلے صفحہ ۲)



مستورات کے خصوصی مسائل

بہشتی زیور حصہ دوم

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

صدیقی ٹرسٹ

نسیم پلازا انٹرنیٹ روڈ — نزد لسبیلہ چوک کراچی ۷۵



صدیقی ٹرسٹ، کراچی

نمبر
 ۷۱۹۵

تبلیغ و اصلاح

تبلیغ و اصلاح کے لئے جہاد کے جذبہ کی ضرورت ہے مسلمان جو عبادت و طاعت کیلئے پیدا کیا گیا تھا، اب خود اپنی تعلیمات کو فراموش کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے تو الحاد، لادینی اور بے حیائی کا طوفان پوری قوم کو تباہ کر دے گا۔

اس امر کے باوجود کہ آپ نماز، روزہ اور شعائر اسلامی کے پابند ہیں تبلیغ کے فرض کفایہ کی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی قوم ہلاکت سے محفوظ نہیں ہے۔ تا وقتیکہ وہ خود بھی عمل کرے اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کیلئے بھی کوشش کرے۔ یہ آپ کا فرض ہے اس کا ذخیرہ اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے۔

ان رسائل کی اشاعت اور مفت تقسیم کے لئے تعاون کیجئے، خود شائع کیجئے یا اپنے عطیات ذریعہ بینک ڈرافٹ اور مینی آرڈر صدیقی ٹرسٹ کے نام بھیجئے۔ آپ بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کیجئے اور اپنی اولاد کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کیجئے یہ ان کا حق اور آپ کا فرض ہے۔ اس کی جواب دہی آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین

احقر زمان

محمد منصور الزماں صدیقی

خط و کتابت کے لئے پتہ

Darul-Uloom Al-Madania Inc.

Ph. 716-892-2606, Fax. 716-892-6621

www.madania.org



0 1 0 3 8 2 6

منظور ہے گذارشِ احوالِ واقعی !
کچھ اپنا بیانِ محسنِ طبیعت نہیں مجھے



سب تعریف اللہ رب العزت کہتے ہے جس نے ساری کائنات تخلیق فرمائی اور جو ہم
سب کا رب واحد ہے۔ بے حد شکر و سپاس ہے کہ ہمارے خالق اور مالک نے ہماری رہنمائی
اور دین و دنیا کی فلاح کے لئے اپنے پیغامبر اور رسول بھیجے کہ وہ انسان کو صراطِ مستقیم
پر چلائیں اور رہنمائی فرمائیں۔

ہم مسلمان خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ
اس نے ہمیں تعلیم و تربیت کے لئے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت میں پیدا فرمایا جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں جن پر دین کی تکمیل کر دی گئی۔
اب نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ دین میں کوئی ترمیم و اصلاح ہوگا۔

اللہ رب العزت کا آخری صحیفہ قرآن کریم ہے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی
اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں ہماری رہنمائی کے لئے دین و دنیا کے مسائل
اور طریق کار موجود ہیں جس کی تشریح و تفسیر کے لئے محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم
کی احادیث شریفہ اللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔

قرآن کریم نے انسانی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ مہر سے لحد تک تمام امور
واضح ہیں۔ تعلیم و تربیت، عبادت و تجارت، دین و دنیا، جہنم و جنت، جہنم و جنت، جہنم و جنت
معاہدہ کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔

ان کے علاوہ انسانی زندگی کے دیگر شعبہ جات نکاح و طلاق، عدت کی مدت،

غلاظت و طہارت، غسل کی تفصیلات اور دمنو کے طریقے بھی تعلیم فرماتے۔ جن کی تشریح اور

وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہے اور جو احادیث شریفہ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں۔

دین کا علم بالخصوص وہ علم جو عبادت اور عقائد کے لئے ضروری ہو اس کا حاصل کرنا اور سیکھنا فرض ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:-

ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے: " (مشکوٰۃ شریف عن اہل بیت)

یہ علم دین ہی ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ ہا علم، علم نافع ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے آداب معلوم ہوتے ہیں۔

طہارت یعنی غلظت سے پاک صاف عبادت کے لئے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے

ہونے کے لئے مسائل کا علم ضروری ہے اس کے بعد ہا غسل اور وضو کے فرائض و سنت کے ارکان ادا ہو سکیں گے پھر اس کے بعد نماز اور تلاوت اور دیگر عبادات ادا ہو سکیں گی۔ اگر بنیاد ہی ناقص رہی تو ساری تعمیر ضائع ہو جائے گی۔

مستورات کے خصوصی مسائل ہیں جن سے واقف ہونا ضروری ہے اکثر خواتین شرم وحیا کے باعث ان ضروری مسائل سے ناواقف رہتی ہیں جس کی وجہ سے خرابی کا اندیشہ ہے۔

شرم وحیا کا تصدیق ہمارے ملک میں جس انداز میں لیا جاتا ہے۔ وہ قابل اصلاح ہے۔ جن معاملات میں شرم وحیا ضروری ہے بلکہ فرض ہے وہاں معاملہ صفر ہے اور جہاں شرم وحیا سے گناہ کا خدشہ ہو اور عبادات ضائع ہوں وہاں شرم وحیا شرافت کا جز سمجھی جاتی ہے۔

مستورات یعنی خصوصیت کے ساتھ متر و حجاب میں شرم ختم ہوگئی اور غیر مسلموں کی تقلید میں نیم برہنہ بلکہ بعض صورتوں میں شرعی اعتبار سے برہنہ پھرنا باعث شرم نہیں رہا لیکن دین کے بنیادی مسائل سے واقفیت حاصل کرنا اور مسئلہ کی معلومات کرنے میں غیر ضروری شرم وحیا ہے۔ جس کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ مومن کبھی کبھی بے حیا اور بے شرم نہیں ہوتا۔ دین کے مسائل دریافت کرنے میں شرم نہیں شیطانی دوسومہ مانع ہوتا ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث شریف روایت ہے۔ جس کا مفہوم ہے کہ

”انصار کی عورتیں دین کے مسائل دریافت کرنے میں شرم نہیں کرتی تھیں۔“

شرم و حیا ضروری چیز ہے یہ عورت کا زیور ہے بلکہ مرد و عورت سب کے لئے ضروری ہے حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ شرم و حیا نہ کی جلتے بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ مسئلہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ایسا نہ کرنے کی صورت میں اگر نماز قضا ہو جلتے تو یہ بڑا زبردست گناہ ہے۔ اس لئے کسی مسئلہ کے علم کے لئے کسی صورت میں بھی بے حیائی اور بے شرمی کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے۔ مستورات کے تمام مسائل اور دیگر ضروری معلومات کے لئے بہترین کتاب ”بہشتی زیور“ ہے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے ہر گھر میں یہ کتاب رہنا چاہیے۔ اور سبھی متقدم کتابیں موجود ہیں لیکن یہ خصوصیت سے مستورات کے لئے ہی لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں کسی مستند مفتی سے فتویٰ حاصل کرنا بہتر طریقہ ہے۔ لیکن عام طور پر مستورات کے لئے یہ صورت ممکن نہیں اس لئے مسائل کی کتاب مطالعہ کرنا چاہیے۔

اس مختصر سال میں بہشتی زیور سے مستورات کے خصوصی مسائل پیش کئے گئے ہیں۔ انشاء اللہ یہ صورت مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاء اللہ آئندہ بھی مستورات کے لئے خصوصی رسائل مرتب کئے جائیں گے۔ فی الوقت چار رسالے مختلف مسائل و احکام کے سلسلہ میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی خدمت کو ہم سب کے لئے نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔

مورخہ ۲۴ ذی قعدی ۱۳۹۸ھ

مطابق ۳ اکتوبر ۱۹۷۸ء

احقر زمان

محمد منصور الزمان

مستورات کے خصوصی مسائل

بہشتی زیور حصہ دویم

از — حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

حیض اور استحاضہ کا بیان | مسئلہ۔ ہر مہینے جو معمولی خون آتا ہے اسکو حیض کہتے ہیں۔

مسئلہ۔ کم سے کم حیض کا مدت تین دن تین رات ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن دس رات ہے۔ کسی کو تین دن تین رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اور اگر دس دن دس رات سے زیادہ خون آیا ہے تو چھ دن دس دن سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ اگر تین دن تو ہو گئے لیکن تین راتیں نہیں ہوئی جیسے جو صبح سے خون آیا اور اتوار کو شام کے وقت بند مغرب بند ہو گیا تب بھی یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر تین دن رات سے ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں۔ جیسے جو کو سورج نکلنے وقت خون آیا اور دو شنبہ کو سورج نکلنے سے ذرا پہلے بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ حیض کا مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، خاکلی یعنی میٹھا سیاہ جو رنگ آوے سب حیض ہے۔ جب تک گدی بالکل سفید نہ دکھائی دے اور جب گدی بالکل سفید ہو جیسی کہ رکھی گئی تھی تو اب حیض سے پاک ہو گئی۔

مسئلہ۔ نو برس سے پہلے اور پچپن برس کے بعد کسی کو حیض نہیں آتا۔ اس لئے نو برس

سے چھوٹی لڑکی کو جو خون آدسے وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے اور اگر بچپن برس کے بعد کچھ نکلے تو اگر خون خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے۔ اگر زرد یا سبز یا خاکے رنگ ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر اس عورت کو اس عمر سے پہلے ہی زرد یا سبز یا خاکے رنگ آتا ہو تو بچپن برس کے بعد بھی یہ رنگ حیض سمجھے جائیں گے اور اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ کسی کو ہمیشہ تین دن یا چار دن خون آتا تھا۔ پھر کسی مہینے میں زیادہ آگیا۔ لیکن دس دن سے زیادہ نہیں آیا وہ سب حیض ہے اور اگر دس دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں اتنا تو حیض ہے باقی سب استحاضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ہمیشہ تین دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں نو دن یا دس دن رات خون آیا تو یہ سب حیض ہے اور اگر دس دن رات سے ایک لمحہ گما زیادہ خون آدسے تو وہی تین دن حیض کے ہیں اور باقی دنوں کا سب استحاضہ ہے ان دنوں کی نمازیں قضا پڑھنا واجب ہیں۔

مسئلہ۔ ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے کبھی چار دن خون آتا ہے کبھی سات دن اسی طرح بدلتا رہتا ہے کبھی دہن دن بھی آجاتا ہے۔ تو یہ سب حیض ہے۔ ایسی عورت کو اگر کبھی دس دن رات سے زیادہ خون آدسے تو دیکھو کہ اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا۔ بس اتنے ہی دن حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ کسی کو ہمیشہ چار دن حیض آتا تھا پھر ایک مہینے میں پانچ دن خون آیا اس کے بعد دوسرے مہینے میں پندرہ دن خون آیا تو اس پندرہ دن میں سے پانچ دن حیض کے ہیں اور دس دن استحاضہ ہے اور پہلی عادت کا اعتبار نہ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی اور پانچ دن کی عادت ہو گئی۔

مسئلہ۔ کسی کو دس دن سے زیادہ خون آیا اور اس کو اپنی پہلی عادت بالکل یاد نہیں کہ پہلے مہینے میں کتنے دن خون آیا تھا تو اس کے مسئلے بہت باریک ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے۔

اور ایسا اتفاق بھی کم پڑتا ہے۔ اس لئے ہم اس کا حکم بیان نہیں کرتے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی بڑے عالم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور کسی ایسے ویسے معمولی مولوی سے ہرگز نہ پوچھے۔

مسئلہ۔ کسی لڑکی نے پہلے پہل خون دیکھا تو اگر دس دن یا اس سے کم اُسے سب حیض ہے۔ اور جو دس دن سے زیادہ اُسے تو پورے دس دن حیض ہے اور جتنا زیادہ ہو وہ سب استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ کسی نے پہلے پہل خون دیکھا اور وہ کسی طرح بند نہیں ہوئی ہیندہ تک برابر آتا رہا۔ تو جس دن خون آیا ہے اس دن سے لیکر دس دن رات حیض ہے۔ اس کے بعد بیس دن استحاضہ ہے اسی طرح برابر دس دن حیض اور بیس دن استحاضہ سمجھا جائے گا۔

مسئلہ۔ دو حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی مدت کم سے کم پندرہ دن ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ سو اگر کسی وجہ سے کسی کو حیض آتا بند ہو جاوے تو جتنے ہیندہ تک خون نہ اُسے گا پاک رہے گی۔

مسئلہ۔ اگر کسی کو تین دن رات خون آیا پھر پندرہ دن پاک رہی پھر تین دن رات خون آیا تو تین دن پہلے کے اور تین دن یہ جو پندرہ دن کے بعد ہیں حیض کے ہیں اور بیچ میں پندرہ دن پاکی کا زمانہ ہے۔

مسئلہ۔ اور اگر ایک یا دو دن خون آیا پھر پندرہ دن پاک رہی پھر ایک یا دو دن خون آیا تو بیچ میں پندرہ دن تو پاکی کا زمانہ ہی ہے۔ اور اگر ایک یا دو دن جو خون آیا ہے وہ بھی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ اگر ایک دن یا کئی دن خون آیا۔ پھر پندرہ دن سے کم پاک رہی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ بلکہ یوں سمجھیں گے کہ گویا اول سے آخر تک برابر خون جاری رہا۔ سو جتنے دن حیض آنے کی عادت ہوتے دن تو حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔

مثال اس کی یہ ہے کہ کسی کو ہر مہینے کی پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ حیض آنے کا معمول ہے۔ پھر کسی مہینہ میں ایسا ہوا کہ پہلی تاریخ خون آیا۔ پھر چودہ دن پاک رہی پھر ایک دن خون آیا تو ایسا سمجھیں گے کہ سولہ دن گویا برابر خون آیا کیا۔ سو اس میں تین دن اول کے تو حیض کے ہیں اور تیرہ دن استحاضہ ہے۔ اور اگر چوتھی پانچویں چھٹی تاریخ حیض کی عادت تھی تو یہ ہی تاریخیں حیض کی ہیں اور تین دن اول کے اور دس دن بعد کے استحاضہ کے ہیں اور اگر اس کی کچھ عادت نہ ہو بلکہ پہلے پہل خون آیا ہو تو دس دن حیض ہے اور چھ دن استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ حمل کے زمانہ میں جو خون آدے وہ بھی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے چاہے جتنے دن آدے۔

مسئلہ۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت بچہ نکلنے سے پہلے جو خون آدے وہ بھی استحاضہ ہے بلکہ جب تک بچہ آدھے سے زیادہ نہ نکل آدے تب تک جو خون آدے گا اسکا استحاضہ ہی کہیں گے۔

مسئلہ۔ حیض کے زمانہ میں نماز پڑھنا۔ اور روزہ رکھنا

حیض کے احکام کا بیان | درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا پاک ہونے کے بعد قضا رکھنے پڑیں گے۔

مسئلہ۔ اگر فرض نماز پڑھنے میں حیض آگیا تو وہ نماز بھی معاف ہوگی۔ پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ پڑھے اور اگر نفل یا سنت میں حیض آگیا تو اس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آدھے روزہ کے بعد حیض آیا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا جب پاک ہو تو قضا رکھے اگر نفل روزے میں حیض آجائے تو اس کی بھی قضا رکھے۔

مسئلہ۔ اگر نماز کے اخیر وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی معاف ہوگئی۔

مسئلہ۔ حیض کے زمانہ میں مرد کے پاس رہنا یعنی صحبت کرنا درست نہیں اور صحبت

کے سوا اور سب باتیں درست ہیں۔ یعنی ساتھ کھانا پینا۔ لیٹنا وغیرہ درست ہے۔

مسئلہ۔ کسی کی عادت پانچ دن کی یا نو دن کی تھی۔ سو جتنے دن کی عادت ہوتے ہی دن خون آیا۔ پھر بند ہو گیا۔ تو جب تک نہا نہ لیوے تب تک صحبت کرنا درست نہیں۔ اور اگر غسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جائے تب صحبت درست ہے۔ اس سے پہلے درست نہیں۔

مسئلہ۔ اگر عادت پانچ دن کی تھی اور خون چار ہی دن آکر بند ہو گیا تو نہا کر نماز پڑھنا واجب ہے لیکن جب تک پانچ دن پورے نہ ہوں تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہے کہ شاید پھر خون آجائے۔

مسئلہ۔ اور اگر پورے دس دن رات حیض آیا تو جب سے خون بند ہو جاوے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے۔ چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہ نہائی ہو۔

مسئلہ۔ اگر ایک یا دو دن خون آکر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں ہے ورنہ کہے کہ نماز پڑھے لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر پندرہ دن گزرنے سے پہلے خون آجاوے تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا۔ حساب سے جتنے دن حیض کے ہوں ان کو حیض سمجھے اور غسل کر کے نماز پڑھے اور اگر پورے پندرہ دن بیچ میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا۔ سو ایک دن یا دو دن خون آنے کی وجہ سے جو نماز میں نہیں پڑھیں اب ان کی قضا پڑھنا چاہئے۔

مسئلہ۔ تین دن حیض آنے کی عادت ہے۔ لیکن کسی مہینہ میں ایسا ہوا کہ تین دن پورے ہو چکے اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی غسل نہ کرے نہ نماز پڑھے۔ اگر پورے دس دن رات یا اس سے کم میں خون بند ہو جائے تو ان سب دنوں کی نمازیں معاف ہیں۔ کچھ قضا نہ پڑھنا پڑے گی اور یوں کہیں گے کہ عادت بدل گئی۔ اس لئے یہ سب دن حیض کے ہون گئے اور اگر گیارہویں دن بھی خون آیا تو اب معلوم ہوا کہ حیض کے فقط تین ہی دن تھے۔ یہ سب استحاضہ

ہے پس گیارہویں دن تھاوے اور سات دن کی نمازیں قضا پڑھے۔ اور اب نمازیں نہ چھوڑے۔
 مسئلہ۔ اگر دس دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل
 تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی سے تہا دھو ڈالے تو نہانے کے بعد بالکل ذرا سا وقت بچے گا
 جس میں صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی۔ تب
 بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جاوے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی اور اگر اس سے بھی کم وقت
 ہو تو وہ نماز معاف ہے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں۔

مسئلہ۔ اور اگر پورے دس دن رات حیض آیا اور ایسے وقت بند ہوا کہ بالکل ذرا سا
 بس اتنا وقت ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہانے
 کی بھی گنجائش نہیں تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے اس کی قضا پڑھنا چاہیے۔

مسئلہ۔ اگر رمضان شریف میں دن کو پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا
 درست نہیں ہے۔ شام تک روزہ داروں کی طرح سے رہنا واجب ہے۔ لیکن یہ دن روزہ میں
 شمار نہ ہوگا بلکہ اس کی بھی قضا رکھنی پڑے گی۔

مسئلہ۔ اور اگر رات کو پاک ہوئی اور پورے دس دن رات حیض آیا ہے تو اگر اتنی ذرا
 سی رات باقی ہو جس میں ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہ کہہ سکے تب بھی صبح کا روزہ واجب ہے
 اور اگر دس دن سے کم حیض آیا ہے تو اگر اتنی رات باقی ہو کہ پھرتی سے غسل تو کلمے کی۔
 لیکن غسل کے بعد ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہ کہہ پاوے گی تو بھی صبح کا روزہ واجب ہے اگر اتنی
 بات تو تھی لیکن غسل نہیں کیا تو روزہ نہ توڑے بلکہ روزہ کی نیت کرے اور صبح کو نہا
 لیوے اور جو اس سے بھی کم رات ہو یعنی غسل بھی نہ کر سکے تو صبح کا روزہ جائز نہیں ہے
 لیکن دن کو کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں ہے بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہے پھر
 اس کی قضا رکھے۔

مسئلہ۔ جب خون سو راخ سے باہر کی کھال میں نکل آوے تب سے حیض شروع ہو

جاتا ہے اس کھال سے باہر چاہے نکلے یا نہ نکلے اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے تو اگر سودا
کے اندر دوائی وغیرہ رکھ لیوے۔ جس سے خون باہر نہ نکلنے پاوے۔ تو جب تک سودا
کے اندر ہی اندر خون رہے۔ اور باہر والی دوائی وغیرہ پر خون کا دھبہ نہ آوے تب تک
حیض کا حکم نہ لگا دیں گے۔ جب خون کا دھبہ باہر والی کھال میں آجاوے یا دوائی وغیرہ
کو کھینچ کر باہر نکال لے۔ تب سے حیض کا حساب ہوگا۔
مسئلہ۔ پاک عادت نے رات کو گدی رکھ لی تھی جب صبح ہوئی تو اس پر خون کا دھبہ
دیکھا ہے اس وقت سے حیض کا حکم لگا دیں گے۔

مسئلہ۔ استحاضہ کا حکم ایسا ہے جیسے
استحاضہ اور معذرت کے احکام کا بیان کسی کی نکسیر پھوٹے اور بند نہ ہو۔ ایسی
عورت نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ قضا نہ کرنی چاہئے اور اس سے صحبت کرنا بھی
درست ہے۔

مسئلہ۔ جس کو استحاضہ ہو یا ایسی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی یا کوئی ایسا
زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے۔ کوئی ساعت بہنا بند نہ ہوتا ہو یا پیشاب کی بیماری ہے کہ
ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے اتنا وقت نہیں ملتا کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے تو ایسے شخص
کو معذرت کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا جائے جب تک وہ وقت
رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ البتہ جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس کے سوا اگر
کوئی اور بات ایسی پائی جاوے۔ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو جانا رہے گا اور پھر
سے کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عورت کو استحاضہ ہوا اور اس نے ظہر کے وقت
وضو کر لیا تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا۔ استحاضہ کے خون کی وجہ سے اس کا وضو نہ
ٹوٹے گا۔ البتہ اگر پاخانہ پیشاب تھی یا سونے چھو گئی اس سے خون نکل پڑا تو وضو جانا رہا۔
پھر وضو کرے۔ جب یہ وقت چلا گیا دوسری نماز کا وقت آگیا تو اب دوسرے وقت دوسرا

دمنو کرنا چاہئے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت دمنو کر لیا کرے اور اس دمنو سے فرض نفل جو نماز چاہے پڑھے۔

مسئلہ۔ اگر فجر کے وقت دمنو کیا تو آفتاب نکلنے کے بعد اس دمنو سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ دوسرا دمنو کرنا چاہئے۔ اور جب آفتاب نکلنے کے بعد دمنو کیا تو اس دمنو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے۔ ظہر کے وقت نیا دمنو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عصر کا وقت آوے گا۔ تب نیا دمنو کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر کسی اور وجہ سے دمنو ٹوٹ جاوے تو یہ اور بات ہے۔

مسئلہ۔ کسی کے ایسا زخم تھا کہ ہر دم بہا کرتا تھا اس نے دمنو کیا۔ پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور بہنے لگا تو دمنو ٹوٹ گیا پھر سے دمنو کرے۔

مسئلہ۔ آدمی معذور جب بنتا ہے اور یہ حکم اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت اسی طرح گذر جاوے کہ خون برابر بہا کرے اور اتنا بھی وقت نہ لے کہ اس وقت کی نماز طہارت سے پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں طہارت سے نماز پڑھ سکتی ہے تو اس کو معذور نہ کہیں گے اور جو حکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہ لگا دیں گے۔ البتہ جب پورا ایک وقت اسی طرح گذر گیا کہ اس کو طہارت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو یہ معذور ہو گئی۔ اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر وقت نیا دمنو کر لیا کرے۔ پھر جب دوسرا وقت آوے تو اس میں ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں ہے بلکہ وقت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی خون آجایا کرے اور سارے وقت بند ہے تو بھی معذوری باقی رہے گی۔ ہاں اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گذر جاوے جس میں خون بالکل نہ آوے تو اب معذور نہیں رہی۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ قہری دفعہ خون نکلے گا دمنو ٹوٹ جاوے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو۔

مسئلہ۔ ظہر کا وقت کچھ ہو یا نہاتب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو اخیر وقت تک کا انتظار کرے۔ اگر دیر ہو جاوے تو اخیر نہیں تو دمنو کر کے نماز پڑھے۔ پھر اگر عصر کے پورے وقت

میں اسی طرح بہا کیا کہ نماز پڑھنے کی بہت نہیں ملی۔ تو اب عصر کا وقت گزرنے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگا دیں گے اور اگر عصر کے وقت کے اندر ہی اند بند ہو گیا تو وہ معذور نہیں ہے جو نماز پڑھنے کے وقت میں پڑھی ہو وہ درست نہیں ہوئی پھر سے پڑھے۔

مسئلہ۔ ایسی معذور عورت نے پیشاب یا خاخاں یا ہوا کے نکلنے کی وجہ سے وضو کیا اور جس وقت وضو کیا تھا اس وقت خون بند تھا۔ جب وضو کر چکی تو خون آیا تو اس خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاوے گا۔ البتہ جو وضو استحاضہ کے سبب کیا ہے خاص وہ وضو استحاضہ کی وجہ سے نہیں۔
مسئلہ۔ اگر یہ خون وغیرہ کپڑے پر لگ جاوے تو دیکھو اگر ایسا ہو کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جاوے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی نہ بھرے گا۔ بلکہ نماز طہارت سے ادا ہو جاوے گی تو دھو ڈالنا واجب ہے اگر ایک روپے کے برابر ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔

مسئلہ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگے کی راہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا بیان کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کے چالیس دن ہیں اور کم کی کوئی حد نہیں۔ اگر کسی کو ایک آدھ گھنٹہ یا اگر خون بند ہو جاوے تو وہ بھی نفاس ہے۔
مسئلہ۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بالکل خون نہ آوے تب بھی جینے کے بعد نہانا واجب ہے۔

مسئلہ۔ اگر آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا لیکن ابھی پورا نہیں نکلا۔ اس وقت جو خون آوے وہ بھی نفاس ہے اگر آدھے سے کم نکلا تھا۔ اس وقت خون آیا تو وہ استحاضہ ہے۔ اگر پیشاب و حواس باقی ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھے نہیں تو گنہگار ہوگی۔ نہ ہوسکے تو اشارہ ہی سے پڑھے قضا کرے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچہ کے ضائع ہوجانے کا ڈر ہو تو نماز نہ پڑھے۔

مسئلہ۔ کسی کا حمل گر گیا تو اگر بچہ کا ایک آدھ عصبون گیا ہو تو گرنے کے بعد جو خون آوے گا وہ بھی نفاس ہے۔ اگر بالکل نہیں بنا پس گوشت ہی گوشت ہے تو یہ نفاس نہیں۔ پس

اگر وہ خون حیض بن سکے تو حیض ہے اور اگر حیض بھی نہ بن سکے۔ مثلاً تین دن سے کم آوے یا پاکی کا زمانہ ابھی پورے پندرہ دن نہیں ہوا تو وہ استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ اگر خون چالیس دن سے بڑھ گیا تو اگر پہلے پہلی بچہ ہوا تھا تو چالیس دن نفاس کے ہیں اور جتنا زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے۔ پس چالیس دن کے بعد نہا ڈالے اور نماز پڑھنا شروع کرے۔ خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے اور اگر یہ بچہ پہلا نہیں بلکہ اس سے پہلے جن چکی ہے اور اس کی عادت معلوم ہے کہ اتنے دن نفاس آتا ہے تو جتنے دن نفاس کی عادت ہوا اتنے دن نفاس کے ہیں، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔

مسئلہ۔ کسی کی عادت تیس دن نفاس آنے کی ہے لیکن تیس دن گزر گئے اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی نہ نہاے اگر پورے چالیس دن پر خون بند ہو گیا تو یہ سب نفاس ہے۔ اور اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جاوے تو فقط تیس دن نفاس کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔ اس لئے اب فوراً غسل کر ڈالے اور دس دن کی نمازیں قضا پڑھے۔

مسئلہ۔ اگر چالیس دن سے پہلے خون نفاس کا بند ہو جاوے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے۔ اور اگر غسل فقہان کرے تو تیمم کر کے نماز شروع کرے ہرگز قضا نہ ہونے دے۔

مسئلہ۔ نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے اور روزہ معاف نہیں۔ بلکہ اس کی قضا رکمنی چاہئے۔ اور روزہ و نماز اور صحبت کرنے کے یہاں بھی وہی مسئلے ہیں جو اد پر بیان ہو چکے ہیں۔

مسئلہ۔ اگر چھ ہیند کے اندر اندر آگے پیچھے دو بچے ہوں تو نفاس کی مدت پہلے بچے سے لی جاوے گی۔ اگر دوسرا بچہ دس میں دن یا دو ایک ہیند کے بعد ہوا تو دوسرے بچے سے نفاس کا حساب نہ کریں گے۔

مسئلہ۔ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو، اور جس پر نہانا واجب

نفاس اور حیض وغیرہ کے احکام کا بیان

ہو۔ اس کو مسجد میں جانا اور کعبہ شریف کا طواف کرنا۔ اور کلام مجید کا پڑھنا۔ اور کلام مجید کا چھونا درست نہیں۔ البتہ اگر کلام مجید جزو دان میں یا رد مال میں لپیٹا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چوٹی چڑھی ہوئی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو۔ بلکہ الگ ہو کہ اتارے سے اتر سکے تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔

مسئلہ۔ جن کا وضو نہ ہو۔ اس کو بھی کلام مجید کا چھونا درست نہیں۔ البتہ زبانی پڑھنا درست ہے۔

مسئلہ۔ جس روپے یا پیسے میں یا پشتری میں یا تعویذ میں یا اور کسی چیز میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہو اس کو بھی چھونا ان لوگوں کے لئے درست نہیں۔ البتہ اگر کسی شخص یا برتن وغیرہ میں رکھے ہوں تو اس شخص یا برتن کو چھونا اور اٹھانا درست ہے۔

مسئلہ۔ کرتے کے دامن اور دوپٹے کے انچل سے بھی قرآن مجید کا پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رد مال وغیرہ اس سے پکڑ کر اٹھانا جائز ہے۔

مسئلہ۔ اگر پودی آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا نذر لفظ یا آدمی آیت پڑھے تو درست ہے۔ لیکن وہ آدمی آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی چھوٹی آیت کے برابر ہو جاوے۔

مسئلہ۔ اگر الحمد کی پودی سورۃ دعا کی نیت پڑھے یا دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھے۔ تلاوت کے ارادہ سے نہ پڑھے تو درست ہے۔ اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ جیسے یہ دعا۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (پس بقرہ) اور یہ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَا نَا (پس بقرہ) آخر تک جو سورۃ بقرہ کے آخیر میں لکھی ہے یا اور کوئی دعا جو قرآن شریف میں آئی ہو۔ دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔

مسئلہ۔ دعا و تہنوت کا بھی پڑھنا درست ہے۔

مسئلہ۔ اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں ہاتھ

گلوانا درست ہے اور درواں پڑھتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت کا رواں کہلتے۔

مسئلہ۔ کلمہ اور دعوہ شریف پڑھنا خدا تعالیٰ کا نام لینا۔ استعفار پڑھنا یا اور کوئی وظیفہ پڑھنا جیسے۔ لَهُ حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط پڑھنا منع نہیں ہے۔ یہ سب درست ہے۔

مسئلہ۔ حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ اللہ اللہ کر لیا کرے۔ تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے۔

مسئلہ۔ کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور ابھی نہانے نہ پائی تھی کہ حیض آگیا۔ تو اب اس پر نہانا واجب نہیں بلکہ جب حیض سے پاک ہو تب نہانے سے ایک ہی غسل دو دنوں یا تینوں کی طرف سے ہو جاوے گا۔

مسئلہ۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے۔ اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے۔ اس کو نجاست خفیہ کہتے ہیں۔

مسئلہ۔ خون اور آدمی کا پاخانہ پیشاب اور منی اور شراب اور کتے بلی کا پاخانہ پیشاب اور ستور کا گوشت اور اس کے بال و ہڈی وغیرہ اس کی ساری چیزیں اور گھوڑے گدھے خچر کی لید اور گائے بیل جینس وغیرہ کا گوبر اور بکری بھیڑ کی مینگی غرضیکہ سب جانوروں کا پیشاب اور منی۔ بطخ اور مرغابی کی بیٹ اور گدھے اور خچر اور سب حرام جانوروں کا پاخانہ یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔

مسئلہ۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔

مسئلہ۔ حرام پر نذر کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری گائے بیسن وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔

مسئلہ۔ مرغی بطخ مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ جیسے کبوتر گور یا یعنی چڑیا۔ مینا وغیرہ اور چنگا ڈر کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔

مسئلہ۔ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور ہینے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جاوے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے بے اس کے دھوئے اگر نماز پڑھ لیوے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور بلا ہے اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں۔ لیکن اس کے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جاوے۔ جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ تو اگر وزن میں ساڑھے چار ماشہ یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ لگ جاوے تو بے دھوئے نماز درست نہیں ہے۔

مسئلہ۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو اور اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو۔ اگر چوتھائی کم ہو تو معاف ہے۔ اگر چوتھائی ہو تو معاف نہیں اس کا دھونا واجب ہے۔ (منقول از بہشتی زیورہ دوئم حیض و نفاس کا بیان)

نوٹ۔ صدیقی ٹرسٹ کے تبلیغی و اصلاحی رسائل۔ پیش کئے جاتے ہیں۔ حسب ضرورت طلب فرما سکتے ہیں۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شرکت کے متمنی ہیں۔ تو اپنے عطیات ذریعہ منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ روانہ کر سکتے ہیں۔ یا حسب توفیق رسائل لاگت سے کم قیمت پر طلب کر کے اپنے حلقہ میں تقسیم کریں۔

توجہ فرمائیے

① ٹرسٹ کسی قسم کا کوئی چندہ وصول نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ البتہ کار خیر اور صدقہ خاریہ میں شرکت کے لیے دعوت عام ہے۔ تسمیلین دین اور اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنا فی زمانہ فرض عین ہے جو اصحابِ خیر حصہ لینا چاہیں براہ راست بذریعہ بنگ ڈرائٹ اور مئی آرڈر اپنے عطیات روانہ کر سکتے ہیں یا ہمارے اکاؤنٹ نمبر ۷۵۵ حبیب بینک لینڈ سبیلہ مارکیٹ برائچ نشتر روڈ کراچی میں جمع کر سکتے ہیں۔ ہر دن کراچی کے چیک میں بنگ کیٹن کا اضافہ ضروری ہے۔

② جو اصحاب ہر ماہ رسائل کے طالب ہوں وہ رکنیت فارم کے ہمراہ ۲۵ روپے سالانہ پاکستان میں = ۶۰۰ روپے سالانہ بیرون پاکستان کے لیے ارسال فرمائیں۔ زیادہ جو بھی ہو وہ صدقہ جاریہ کے لیے عطیہ ہوگا جغیہ رکنیت کسی قسم کی فیس یا رسائل کا بدل نہیں بلکہ صدقہ جاریہ میں شرکت ہے۔ اس کا مقصد صرف رضاء الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ یہ مدغیہات ہے۔

③ یہ رسائل رعائتی قیمت پر حاصل کر کے اپنے حلقہ اصحابِ برادری اور طلباء میں تقسیم کیجئے۔ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کا یہ سہل طریقہ ہے۔ اختلافِ مسلک سے دور رہ کر دین کی بنیادی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں۔

④ اراکین کو ماہ بہ ماہ آرڈر رسائل نئے طبع شدہ روانہ کیے جاتے ہیں، پہلے شائع شدہ رسائل یا انگریزی، سندھی، عربی، فارسی، پشتو، بلوچی اور گجراتی تراجم رعائتی قیمت ادا کر کے طلب کئے جا سکتے ہیں۔ چند رسائل درکار ہوں تو ڈاک بٹکٹ بھیج کر منگو سکتے ہیں۔ زیادہ تعداد میں ضرورت ہو تو رجسٹرڈ پارسل طلب کیجئے جس کے لیے رقم منی آرڈر یا بینک ڈرائٹ سے ارسال کیجئے۔ وہی رقم بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ ڈاک خرچ خسریہ لاکے ذمہ ہوگا۔ فہرست میں رعائتی نرخ فی سیکڑہ درج ہیں لیکن آپ ایک رسالہ بھی اسی قیمت پر طلب کر سکتے ہیں۔ لائبریریوں کیلئے بھی یہی طریقہ کار ہے۔ مفت تقسیم صرف اراکین کے ذریعہ ہی ہوتی ہے۔

⑤ ٹرسٹ تجارتی ادارہ نہیں ہے۔ یہ صرف تسمیلین و اصلاح کے لیے سرگرم عمل ہے۔ رعائتی قیمت پر کتب و رسائل کی ترسیل ان حضرات کے لیے ہے جو انھیں فی سبیل اللہ تقسیم کریں اور تسمیلین دین کے لیے کوشاں ہوں۔ یہ طریقہ کار محض نیت و تعاون کے جذبہ کے تحت اپنایا گیا ہے۔ آپ اپنے ذوق کے مطابق حصہ لے سکتے ہیں۔

اس اعلان کے ساتھ سابقہ تمام اعلانات منسوخ تصور کئے جائیں۔ مورخہ یکم اگست ۱۹۸۹ء

صدیقی ٹرسٹ
تسمیلین بازار نزد سبیلہ چوک نشتر روڈ کراچی
کوڈ نمبر ۷۵۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ سَيِّئًا أَوْ لَطِيفًا

اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو دلن گناہوں پر، ہماری گرفت نہ فرما۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

اور اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

اور اے ہمارے رب، ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھا جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔

ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے

ہماری غطاؤں کو اپنی رشتوں سے ڈھانپ لے